

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن نے ولیمز پارک وے فائر کیمپس کا سنگ بنیاد رکھ دیا

برامپٹن، آن (3 دسمبر 2019) – میئر، کونسلرز اور سٹی آف برامپٹن نے آج ولیمز پارک وے فائر کیمپس کی افتتاحی تقریب کی میزبانی کی۔

یہ جدید ترین اور سنٹر لائزڈ سہولت گاہ جو متوقع طور پر 2022 میں کھلے گی، برامپٹن کے فائر ہیڈ کوارٹر، پریونشن ڈیویژن، نئے فائر اسٹیشن 203، ایک ایمرجنسی آپریشن سنٹر، ایمرجنسی میڈرز آفس اور ان ڈور اور آؤٹ ڈور فائر ٹریننگ سہولت گاہوں کا مرکزی مقام ہو گی۔

سرخیوں میں شامل ہیں:

- آتشزدگی سے بچاؤ، اس کی شدت میں کمی لانے، تیار رہنے، آگ بجھانے کی کارروائی اور بحالی کے شعبوں کے انتظامات، تربیت، تعلیم، تحقیقات اور نئے اقدامات کے لیے 70,000 مربع فٹ سے زائد گنجائش۔
- آگ بجھانے کی براہ راست تربیت کے لیے پورا سال ایک عمارت دستیاب ہو گی جبکہ ایک دوسری عمارت کے ذریعے نئے بھرتی شدہ اور موجودہ فائر فائٹرز کو بیک وقت تربیت دی جا سکے گی۔
- برامپٹن کے ایسے فائٹرز جنہوں نے ہمارے رہائشیوں کی حفاظت کرتے ہوئے عظیم ترین قربانیاں دیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کو یاد رکھنے اور ان کی عزت افزائی کے لیے ایک یادگاری اور نمائشی جگہ
- سٹی کا ہدف "LEED" سلور اور فٹ ویل (Fitwel) بلڈنگ سرٹیفیکیشنز کا حصول ہے

### اقتباسات

"برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہماری کمیونٹی کو نہایت اہم خدمات فراہم کرتی ہے اور یہ کیمپس ہمارے عملے اور ہمارے رہائشیوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو گا۔ تمام افعال کو سنٹر لائز کرنے اور خدمات کی فراہمی کو آسان بنانے سے ہماری ٹیم کو برامپٹن کو ایک اچھی طرح چلایا جانے والا شہر بنانے اور ہنگامی حالات کو بہترین طریقے سے منتظم کرنے اور اپنا بہترین رد عمل دینے میں مدد ملے گی۔"

- میئر پیٹرک براؤن

ہماری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز برامپٹن کو ایک صحت مند اور محفوظ کمیونٹی بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس عمارت کے لیے LEED سلور اور فٹ ویل بلڈنگ سرٹیفیکیشنز حاصل کرتے ہوئے یہ کیمپس شہر کو سر سبز بنانے کے ہمارے عزم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔"

- ریجنل کونسلر رووینا سیٹوس، چیئر، کمیونٹی سروسز

"اپنی کمیونٹی کو خدمات کی فراہم کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم ہمیشہ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا نیا ولیمز پارک وے فائر کیمپس اپنی سہولت گاہوں کے ذریعے فائر فائٹنگ کے مستقبل کو مزید بہتر بنانے کے عمل کو جاری رکھنے میں ہماری مدد کرے گا اور اس کے علاوہ ہمارے رہائشیوں کو محفوظ بناتے ہوئے عظیم ترین قربانی دینے اور اپنی جانوں کو قربان کرنے والے برامپٹن کے فائر فائٹرز کو یاد رکھنے اور ان کی عزت افزائی کے لیے یہ کیمپس ایک یادگاری جگہ بھی فراہم کرے گا۔"

- چیف بل بوائز، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,00 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)